



## ایشیاء کپ میں لمبی اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہوں، قومی اندر 19 کرکٹر حیدر علی

- بہتر اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ ایونٹ میں زیادہ سنچریاں سکور کرنا ہدف ہے
- لمبی اننگز کھیلنے کے لیے سینئر کرکٹرز کی ویڈیوز دیکھتا ہوں

لاہور، 6 اگست 2019ء:

اٹک سے تعلق رکھنے والے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بیٹسمین حیدر علی کا کہنا ہے کہ وہ لمبی اننگز کھیلنے کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فارغ وقت میں انٹرنیشنل کرکٹرز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ بطور اوپنر وکٹ بچانا اہم ہے کیونکہ اوپنرز کے جلد آؤٹ ہوجانے سے پوری ٹیم پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ حیدر علی نے کہا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی اور انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کوچز کا تجربہ اس ہنر کو سیکھنے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ کوچز نے دورہ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے دوران میری بھرپور رہنمائی کی۔ انہوں نے سمجھایا کہ اعتماد سے کھیلتے رہو اور اسکور بورڈ کو متحرک رکھو۔

حیدر علی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کمی نہیں مگر بطور بیٹسمین ہمیں نصف سنچری کو سنچری میں تبدیل کرنے کا آرٹ سیکھنے میں وقت لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے 4 سالہ ڈومیسٹک کرکٹ کیریئر نے کئی نشیب و فراز دیکھے مگر دورہ سری لنکا کے لیے قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم میں شمولیت سے میری صلاحیتوں میں نکھار آیا۔ کوچز نے میری قابلیت کی نشاندہی کرتے ہوئے مجھے کھیل میں بہتری کے گر سیکھائے اور یہی وجہ ہے کہ دورہ سری لنکا میں میری کارکردگی بہترین رہی۔ دورے کے دوران 5 میچوں میں 214 رنز بنانے والے 18 سالہ نوجوان کرکٹر کا بہترین سکور 93 رنز ناٹ آؤٹ تھا۔

حیدر علی نے کہا کہ سری لنکا ٹور پر میں نے 5 میچوں میں 3 نصف سنچریاں سکور کیں۔ مگر مجھے سنچری نہ کرنے کا دکھ تھا۔ جنوبی افریقہ روانگی سے قبل میں نے کوچز سے مشاورت کے ساتھ ساتھ دور حاضر کے انٹرنیشنل کرکٹرز کی بیٹنگ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں۔ جس سے مجھے نصف سنچری کو سنچری میں بدلنے کا حوصلہ ملا۔ حیدر علی نے کہا کہ دورہ جنوبی افریقہ کے دوران میں نے صرف ایک سنچری سکور کی مگر یہاں مجھے اپنی اننگز کو طول دینے کے آرٹ پر عمل درآمد کرنے کا موقع ملا۔ سیریز میں حیدر علی نے 7 میچوں میں 317 رنز بنائے، جس میں 1 سنچری اور 2 نصف سنچریاں شامل تھیں۔

18 سالہ حیدر علی کا عزم ہے کہ رواں سال ایشیاء کپ انڈر 19 کرکٹ ٹورنامنٹ میں پاکستان فاتح ہوگا تاہم ان کاماننا ہے کہ ایونٹ میں کامیابی کے لیے ہمیں کوچز کے مشوروں پر عمل کرنا ہوگا۔ حیدر علی کا کہنا ہے کہ وہ ایونٹ میں ٹیم کو اچھا اسٹارٹ فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ بہتر اسٹرائیک ریٹ برقرار رکھتے ہوئے لمبی اننگز کھیلیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم کی خوبی یہ ہے کہ کھلاڑی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں اور میدان میں ایک یونٹ بن کر کھیلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں جاری قومی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے کیمپ میں کھلاڑیوں کی فٹنس، ڈائٹیٹ اور فیلڈنگ پر خاص توجہ دی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ ٹیم ایشیاکپ اور آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈکپ میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

### **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and

women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

#### Commercial Partners



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb)   
[@PakistanCricketBoard](https://twitter.com/PakistanCricketBoard)   
[@PakistanCricketOfficial](https://twitter.com/PakistanCricketOfficial)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb) 

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozpur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4